

اے شبستانِ حرا!

[نستیہ]

اے شبستانِ حرا!

اے دلِ سنگ میں ٹھہرے ہوئے اک نقشِ جمیل

اے کہستانِ جہاد میں جاگی ہوئی تقدیر کی نو

اے نہاں خانہ ہستی کے خزینوں کی ضیا

اے دلِ آدم و عالم کی دعا
اے شبستانِ حرا!

صبح آفاق نے مانگی تھی ترے دُروں کی نادیدہ کرن

تُو نے سیکھا تھا ازل سے درِ امکان کی طرح وارہنا

کھٹائیں تری دہلیز سے گزری ہیں زمانوں کی طرح

دور — زمانے، جزیرے سال ہیں —
عائنِ رو کے ہوئے

اور سر کو جھکائے ہوئے، آتے ہیں یہاں

فہینِ روانی کے لئے

سب عبارات و اشارات ہیں خاموش یہاں

اے شبستانِ حرا!
حسنِ معانی کے لئے!

اے لبِ ہستی کی دعا

اے دلِ آدم و عالم کی تنہا کی مثیل

اے گذرتی ہوئی آفات میں اک قائم دائم کی دلیل

تو وہ خوشِ بخت کہ اُس مہرِ جہاں تاب نے چٹا تجھے جلوؤں کا جھوم

حُسنِ انفاس کا تزیینہ و تعطیر تری خراب کو فردوس بنا کر تانا،

تیرے دامن میں مہوا صبح رسالت کا طلوع —

اے دلِ آدم و عالم کی دعا

اے شبستانِ حرا!
اے شبستانِ حرا!